

تباہی کے خطرے کو سمجھنا

تعارف: تباہی کے خطرے کا حساب یہ سمجھ کر لگایا جاتا ہے کہ کسی علاقے میں کون سے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، اس بات کا اندازہ لگا کر کہ کمیونٹیز کس خطرے سے منفی طور پر متاثر ہو سکتی ہیں، اور انسانی عوامل کی ایک حد کی نشاندہی کرنے سے جو لوگوں کی کسی آفت کے لیے تیاری کرنے، جواب دینے اور اس سے صحت یاب ہونے کی صلاحیت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ آفات کے خطرات کو سمجھنے اور ان سے نمٹنے کے ذریعے، علم اور وسائل سے لیس کمیونٹیز اپنے آپ کو محفوظ رکھنے اور آفات سے نمٹنے کی اعلیٰ صلاحیت رکھتی ہیں۔

تباہی کا خطرہ کم کرنے کی سرگرمیاں

درکار وقت

30 منٹ

دشواری کی سطح

میڈیم

درکار وسائل

انڈوں کا کارٹن، 2 انڈے،

2 پنگ پونگ بالز

مرحلہ نمبر 1

• خطرے کے دائرے میں ہونے کی نمائندگی کرنے کے لیے ایک خالی انڈوں کا کارٹن اور خطرے کی نمائندگی کرنے کے لیے دو انڈے اور دو پنگ پونگ گیندیں جمع کریں۔

مرحلہ نمبر 2

• ایک انڈے اور ایک پنگ پونگ گیند کو انڈوں کے کارٹن کے کنارے پر رکھیں اور زلزلے کی نقل کرنے کے لیے کارٹن کو ہلائیں۔

مرحلہ نمبر 3

• زلزلے میں انڈے اور پنگ پونگ گیند کے ساتھ کیا ہوا اس پر بحث کریں۔ وہ دونوں ایک ہی خطرے سے دوچار تھے لیکن ایک کمزوری کی وجہ سے ٹوٹ گیا اور دوسرا واپس اچھلنے میں کامیاب رہا۔

مرحلہ نمبر 4

• بقیہ انڈے اور پنگ پونگ گیند کو انڈوں کے کارٹن کے بیچ میں رکھیں اور زلزلے کی نقل کرنے کے لیے کارٹن کو ہلائیں۔

مرحلہ نمبر 5

• ان حالات میں انڈے اور پنگ پونگ گیند کے ساتھ کیا ہوا اس پر بحث کریں۔ کارٹن کے وسط میں تحفظ کی وجہ سے اور زلزلے کے خطرات سے دور ہونے کی وجہ سے کمزور انڈا بھی کم متاثر ہوا۔

